



**THE
SENATE OF PAKISTAN
DEBATES
OFFICIAL REPORT**


Thursday May 5, 1977

CONTENTS

| | Pages |
|---|-------|
| Leave of Absence | 95 |
| Message from the National Assembly Re : Adoption of Jammu and Kashmir (Administration of Property) Bill, 1977— <i>Read out</i> | 95 |
| Message from the National Assembly Re : Adoption of Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977— <i>Read out</i> | 96 |
| Message from the National Assembly Re : Adoption of Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977— <i>Read out</i> | 96 |
| Election to the Finance Committee— <i>Mr. Abdul Malik Deputy Chairman, and Rao Abdul Sattar, Leader of the House, elected Members</i> | 96 |
| The Service Tribals (Amendment) Bill, 1977— <i>Passed</i> | 97 |
| The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977— <i>Passed</i> | 99 |
| The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977— <i>Passed</i> | 106 |

PRINTED AT THE DOGARSONS ART PRINTERS, 17—URDU BAZAR, LAHORE
PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, KARACHI.

Price : Paisa 50



SENATE DEBATES
SENATE OF PAKISTAN

Thursday, May 5, 1977

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber, (State Bank Building), Islamabad, at ten of the clock in the morning, (Mr. Habibullah Khan), in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Chairman : Gentlemen, there is a leave application by Mahmood Aziz Kurd. It reads :

“Dear Sir,

As I am advised to have rest for two weeks by my doctors, therefore, it is prayed that I may be granted leave of the session. Medical certificate is attached herewith.”

Medical certificate is there. He has asked for leave for complete rest. Should the leave be granted ?

(The leave was granted)

Mr. Chairman : The leave is granted.

(Pause)

**MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY RE : ADOPTION
OF JAMMU AND KASHMIR (ADMINISTRATION OF
PROPERTY) (AMENDMENT) BILL, 1977.**

Mr. Chairman : Then there is a message from the National Assembly Secretariat addressed to the opposite number here in the Senate Secretariat.

[Mr. Chairman]

“In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977, on the 4th May. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY *RE* : ADOPTION OF SERVICE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 1977

Mr. Chairman : There is another message also :

“In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly passed the Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977, on the 4th May. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY *RE* : ADOPTION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 1977

Mr. Chairman : The third message is from the same Secretariat :

“In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly I have the honour to inform you that the National Assembly passed the Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977, on the 4th May. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

ELECTION TO THE FINANCE COMMITTEE—MR. ABDUL MALIK, DEPUTY CHAIRMAN, AND RAO ABDUS SATTAR, LEADER OF THE HOUSE, ELECTED MEMBERS

Mr. Chairman : Now, we take up next item. It is in the Supplementary Orders of the Day. There are, I presume, two vacancies in the Senate Finance Committee, because our ex-Deputy Chairman, Mirza Tahir Mohammad Khan and Mr. Ahmad Waheed Akhtar, the two Members, have been returned to the National Assembly and whose seats are vacant. Yes, Mr. Law Minister ?

Mr. S. M Masud (Minister for Law and Parliamentary Affairs) : Mr. Chairman, Sir, I propose the names of Mr. Abdul Malik and Rao Abdus Sattar to fill the casual vacancies in the Finance Committee of the Senate.

Mr. Chairman : The motion is to propose the name of Mr. Abdul Malik, Deputy Chairman, and Rao Abdus Sattar, Leader of the House, to fill the casual vacancy in the Finance Committee of the Senate. This is the proposal.

I think there is no opposition. So, it is for you to approve the proposal.

Is the proposal approved ?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Chairman : No objection ? No opposition ? Do you all agree ?

(The House agreed)

Mr. Chairman : All right. So, the gentlemen, Mr. Abdul Malik, Deputy Chairman, and Rao Abdus Sattar, Leader of the House, have been elected to the Finance Committee of the Senate unanimously by the House.

Now, we proceed to take up the legislative business. Item No. 2.

THE SERVICE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 1977

Mr. S. M. Masud : Sir, I beg to move :

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Would you like to explain ?

Mr. S. M. Masud : Yes, Sir.

Mr. Chairman, Sir, as you are aware under section (3) 3 of the Service Tribunals Act, 1973 provides that the Service Tribunal shall consist of :

- (a) a Chairman, to be a person who has been or is qualified to be a Judge of the High Court, and
- (b) two Members, each of whom shall be a person of such qualifications as may be prescribed by rules.

Now this amendment tends to make provision whereby any sitting judge can become Chairman of the Service Tribunal. Under the present law only a person who holds qualifications to be Judge of the High Court or who has been a Judge of the High Court could become the Chairman

[Mr. S. M. Masud]

of the Service Tribunal. By virtue of this amendment a sitting Judge of the High Court can become the Chairman of the Service Tribunal, because it was considered in the past that a person who has been or is qualified to be judge of the High Court did not inspire confidence. Now the sitting judges are being made eligible for appointment as Chairman of the Tribunal. This amendment pertains to the sitting judges of the High Court who can also become Chairmen of the Service Tribunals.

Mr. Chairman : It is a very simple Bill. I do not think it requires any discussions, but if any gentleman wishes to speak he is welcome.

(Pause)

Mr. Chairman : So, then it means that I should put the question to the House.

The question before the House is :

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The motion is carried.

Now, we take up clause by clause consideration of the Bill. I believe there is no amendment to any of the clauses. So, Clauses No. 2 and 3 can be put together.

Now the question before the House is :

“That Clauses 2 and 3 form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clauses 2 and 3 both inclusive form part of the Bill.

Now the question before the House is :

“That Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill.

Now we take up the next Item No. 3.

Mr. S. M. Masud : Sir, I beg to move :

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) 99
BILL, 1977

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

I do not think there is any need to offer any further explanation. You have already done it. It is quite sufficient. I do not think any gentleman is inclined to say anything for or against. So, I put the question to the House.

The question before the House is :

“That the Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The Bill is adopted unanimously.

Now, we move on to the next item, No. 4.

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (SALARIES AND
ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 1977

Mr. S. M. Masud : Mr. Chairman Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of the Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of the Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. S. M. Masud : Mr. Chairman, Sir, the amendment is being made in the existing law to the effect that it makes obligatory upon the Members of the House to get leave from the House if they want to remain absent for more than three days. In the past your honour must have experienced that the Members remained absent without getting proper leave from this august House and also claimed daily allowance and other privileges in the past. By this amendment the intention is that a Member must get permission of the House if he wants to remain absent for more than 3 days so as to make him entitled to daily allowance and other privileges which are available to him. That is the only intention so that

[Mr. S. M. Masud]

the Members can participate in the functions of the Parliament and they should come and actually participate, and not claim the daily allowances and other allowances without the permission of the House. When they do not participate in the proceedings of the Parliament.

Mr. Chairman : There is no provision for such a punitive action if the Members are late. If a Member absent himself for three days or if they absent themselves for 3 days or for more than 3 days, then they would not get daily allowance and conveyance allowances, and if they are late no such provision is there.

فرمائیے انصاری صاحب !

جناب عبداللطیف انصاری : جناب چیئرمین ! میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر قانون صاحب نے جو بل پیش کیا ہے وہ وقت کے عین مطابق ہے اور وقت کا تقاضا ہے ، اس سے پہلے خاص طور پر حزب اختلاف کا اسمبلیوں کے اندر جو کردار رہا ہے انہوں نے ہمیشہ اسمبلی کا بائیکاٹ کیا ہے ۔ بجٹ سیشن کے دوران بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا ۔ اس طرح وہ ایک بہانہ بنا کر اسمبلی سے باہر تو رہتے تھے لیکن اپنی مراعات ہمیشہ حاصل کرتے رہتے تھے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم اور قائد ملت کے بعد جو لوگ بھی یہاں پر حکومتیں کرتے رہے وہ ایک گروہ کی صورت میں اپنے مفاد کے لیے پاکستان پر حکومت کرتے رہے ۔ انہوں نے کبھی بھی جمہوری اداروں کو مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ ۱۹۵۸ء سے لے کر ۱۹۷۱ء تک اس ملک میں آمرانہ حکومت قائم رہی اور اس کے بعد عوامی حکومت اور قائد عوام اس ملک میں جمہوریت کو رواج دینے اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہے ۔ لیکن ہمارے ملک کی حزب اختلاف نے ہمیشہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا اور بجائے اس کے کہ ان جمہوری اداروں کو مضبوط کریں وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہے ۔ آپ کو یاد ہو گا کہ جب آئین بن رہا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس آئین کو بننے نہ دیا جائے اور آخری وقت میں انہوں نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا ۔ لیکن قائد عوام کے تدبیر اور سیاسی فراست تھی اور ملک کے عوام نے ان کو مجبور کیا تو وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے اور آئین متفقہ طور پر پاس ہوا ۔ لیکن اس کے بعد کا کردار آپ کے سامنے ہے وہ اپنے آپ کو ملک میں جمہوریت پسند اور محب وطن کہلواتے تھے لیکن ان کا کردار ہمیشہ ایسا رہا کہ وہ ملک کے جمہوری

اداروں کی پیٹھ پر چہرا گھونپنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ عوام میں تو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہو لیکن ہمیشہ ان کا کردار اس کے برعکس رہا اور موجودہ حالات سے انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اس ملک میں جمہوریت کی بجائے انارکی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بل موجودہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اسمبلی کے ممبر حضرات کو جو مراعات حاصل ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ایوانوں کے ممبر حضرات سے کم ہیں لیکن ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے۔ ہمارے منتخب شدہ نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ عوامی نمائندگان ہونے کی حیثیت سے ان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ پوری طرح ادا کریں اور وہ اسمبلی سے باہر رہ کر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو وزیر قانون صاحب نے پیش کیا ہے بالکل صحیح ہے اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہے میں اس بل کی پر زور تائید کرتا ہوں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔

Mr. Fakhar Zaman : Mr. Chairman, Sir, I find myself in total agreement with the honourable Member of the House about his views regarding the role of Opposition in the Parliament, but I would like to add a few more points, because, as we have seen that the honourable Members of the party are also not always very regular about attending the Parliament, so, I think, this Bill will also regulate their attendance as well, so that you could have in this august House all Members of the House of the party, and if they absent themselves, then it should be only according to the law, as has been enunciated by the Law Minister. I support the Bill.

سردار محمد سلیم : جناب چیئرمین ! اس ملک میں کچھ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ درحقیقت اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے داعی ہیں اور دوسری طرف ان کا ذاتی کردار یہ رہا کہ وہ اسمبلیوں سے، سینیٹ سے اپنی پوری مراعات لیتے رہے روزانہ بھرتہ حاصل کرتے رہے لیکن سینیٹ کے کام میں اور اسمبلیوں کی کاروائی میں انہوں نے کوئی شمولیت اختیار نہیں کی حالانکہ یہ بات اسلام کی رو سے بالکل ناجائز ہے کہ آپ وہ دولت یا وہ پیسہ کھائیں یا اپنے اوپر خرچ کریں یا اپنے بچوں پر خرچ کریں جس پیسے کے لیے آپ کی محنت آپ کی اور آپ کی سعی کوشش اور جدوجہد شامل نہ ہو میں اس بل کی تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بالخصوص پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں

[Sardar Mohammd Aslam]

کہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ وہ اس پیسے کے حقدار نہ بنیں جس پیسے کے لیے ان کی محنت کوشش جدوجہد یا سعی شامل نہ ہو۔ اگر ہم خود اپنے اوپر یہ اصول لاگو نہ کریں گے تو ہم یہاں اس ملک کے اندر، معاشرے کے اندر ان دوسرے افراد کو جو ناجائز طور سے بغیر محنت کے دولت کھاتے ہیں ان کا محاسبہ بھی نہیں کر سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کا محاسبہ اس وقت کرنے کے حقدار ہوں گے، اہل ہوں گے، جب ہم اپنے اندر یہ صلاحیت اور یہ اہلیت پیدا کریں کہ ہم وہی لیں گے جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے یا کوشش کی ہے یا جدوجہد کی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی پرزور حائت کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔

جناب فیروزالدین انصاری : جناب چیئر مین ! یہ بل جو ہمارے سامنے زیر بحث ہے اس کو بہت پہلے پیش ہو جانا چاہیے تھا کیوں کہ سابقہ اسمبلی کے ممبروں نے اپوزیشن نے جو رول ادا کیا ہے اس سٹی رول کے پیش نظر حکومت کو یہ بل لانا پڑا کیونکہ وہ لوگ سب کے سب اسمبلیوں میں نہیں آتے رہے ہیں بائیکاٹ ہوتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ تنخواہیں اور الاؤنس باقاعدگی سے وصول کرتے رہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن حلقوں سے وہ منتخب ہو کر آئے تھے ان کا فرض تھا کہ وہ ان حلقوں کی نمائندگی کرتے، عوام کی نمائندگی کرتے لیکن وہ یہ نہیں کرتے رہے اور مفاد بھی حاصل کرتے رہے۔ جناب والا ! ایک طرف وہ عوام کے ساتھ غداری بھی کرتے رہے اور دوسری طرف وہ عوامی خزانے پر ڈاکہ بھی ڈالتے رہے اس لیے میں اس بل کی پرزور حائت کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھا بل ہے اور میں وزیر قانون کو اس بل کے پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔ مولوی صاحب ! محمد خالد خان صاحب آپ سے پہلے اٹھے ہیں وہ بول لیں اس کے بعد آپ کی باری ہے۔

جناب محمد خالد خان : جناب والا ! جہاں تک اس بل کا تعلق ہے میں اس بل کی پرزور تائید کرتا ہوں اس کے لیے میرے پاس کچھ دلائل ہیں یہاں ہم سب اس نکتہ نظر سے آئے ہیں کہ اس قوم کی اور اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں۔

یہ salaries اور الاؤنسز جو ہمیں یہاں ملتے ہیں یہ اس نمائندگی کا صلہ ہے جو ہم یہاں عوام کی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نمائندگی نہیں کرتے، جب ہم یہاں سے غیر حاضر رہتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا یہ کسی ممبر کا حق نہیں بنتا کہ وہ عوامی خزانے پر بوجھ بنا رہے جناب والا! بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ عوام کے نمائندے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں عوام سے ووٹ حاصل کر کے وہ اس بنا پر منتخب ہو کر آتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی کریں اور وہ حکومت کے کاروبار میں شریک ہوں مگر اس کے ساتھ جو فرائض عوام کی طرف سے ان پر عائد ہوتے ہیں وہ ان فرائض کو بخوبی سر انجام نہیں دیتے اس لئے انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ جب وہ اسمبلیوں سے متواتر غیر حاضر رہیں تو انہیں تنخواہیں یا الاؤنس ملے۔ میں اس بل کی حثیت اس بنا پر کرتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ جہاں سے بھی منتخب ہو کر آئے ہیں اس لئے ہیں تاکہ یہاں آ کر بل میں قانون میں اور حکومت کے کاروبار میں شریک ہوں۔ صحیح طور پر اپنے حلقے کی نمائندگی کریں۔ جہاں تک اپوزیشن کے کردار کا تعلق ہے یہ بات واضح ہے کہ وہ مراعات تو ہمیشہ سے حاصل کرتے رہے ہیں لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے فرائض انہوں نے کبھی سر انجام نہیں دیئے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ فرائض اور مراعات ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر آپ فرائض ادا نہیں کرتے تو آپ کو کسی صورت سے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ وہ مراعات حاصل کریں اس نکتہ نظر سے جناب والا! میں اس بل کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ شکریہ

جناب چیئرمین : شکریہ۔

مولوی عبدالحکیم : جناب چیئرمین! زیر بحث بل ممبران پارلیمنٹ کو فرائض کی پابندی کرانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بل بہت پہلے پیش ہونا چاہئے تھا سال ہائے گزشتہ میں یہ تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی رہتی ہے کہ جناب چیئرمین کی اور قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو کورم کی طرف بھی بسا اوقات توجہ دلانی پڑی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قانونی لحاظ سے کوئی ایسی پابندی نہ تھی اور دوسرا یہ جو مادر پدر آزادی کا رجحان چل گیا ہے۔ اس نے ایسی بری صورت اختیار کر لی ہے۔ کہ اخلاق سے بھی آزادی، ذمہ داریوں

[Maulvi Abdul Hakeem]

سے بھی آزادی، اور فرائض منصبی کے ادا کرنے سے بھی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اور ملت کے جو تقاضے اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ان سب سے بے نیاز کر دیا ہے۔ انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ اخلاقی اور انسانی ضابطوں کا پابند ہو۔ اور پھر نظام ملک، نظام مملکت یا نظام گھر کو چلانے کے لیے جو اصول، سماجی قانونی اور آئینی لحاظ سے وضع کیے جائیں۔ ان کا پابند ہو۔ پابندی ہی وہ چیز ہے جو انسانی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی صفات کا مالک بنا کر مشہور کراتی ہے۔ تو یہ ممبران پارلیمنٹ کے لیے پارلیمنٹ میں حاضری کی جو پابندی ہے اس سے بہت بڑا فائدہ ہو گا۔ اس سے کارگزاری بھی بہتر ہو گی اور آنے والی نوجوان نسل کو یہ عملی سبق ملتا رہے گا کہ ممبران پارلیمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کورم پورا ہوتا ہے اور ملک کی ضروریات کے لیے متعلقہ وزیر صاحب جو قانون چاہتے ہیں وہ صحیح ٹائم پر پاس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے۔ ہمارے عوام کا بھی فائدہ ہے۔ حکومت کا بھی فائدہ ہے اور اخلاق اور اسلامی لحاظ سے بھی فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ بل ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ شکر یہ۔

جناب چیئرمین: میرے خیال میں اس پر مزید تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں؟

جناب محبوب الرحمان: جی جناب والا! میرے خیال میں یہ بل جو کہ وزیر قانون نے پیش کیا ہے اگر نیشنل اسمبلی اور اس معزز ایوان کے ممبران اپنے فرائض محسوس کرتے تو اس بل کو لانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی لیکن ہماری حزب اختلاف نے ایسے حالات پیدا کئے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے انہوں نے اسمبلیوں میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اسمبلیوں میں آنے کی بجائے گلی کوچوں کا رخ اختیار کیا ہے۔ جو کہ جمہوریت کشی کے مترادف ہے تو جناب والا! وزیر قانون صاحب نے اس بل کو لا کر میں کہتا ہوں کہ معزز ایوان کے ارکان کو ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ بغیر بل لانے کے ہونی چاہئے تھی۔ ہم نے محسوس نہیں کیا تو حزب مخالف نے بھی اس ذمہ داری کو

محسوس نہیں کیا جو کہ ان کے حلقوں کے لوگوں نے ان پر ڈالی تھی اس سے انہوں نے در گزر کیا اس لیے اس بل کو پیش کیا گیا ہے جس کی میں پر زور حمایت اور تائید کرتا ہوں -

Mr. Chairman : Now I will put the question.

The question before the House is :

“That the Bill to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The motion is carried.

Now, we take up clause by clause consideration of the Bill. It is a three-clause Bill. I think there is no amendment proposed to any of the clauses. So we take up Clauses 2 and 3 both together.

The question before the House is :

“That Clauses 2 and 3 both form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause 2 and Clause 3 both form part of the Bill.

The next question is :

“That Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill. Yes, please next item No. 5.

Mr. S. M. Masud : Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

Mr. Chairman : The motion is :

“That the Bill to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

M. S. M. Masud : Mr. Chairman, Sir, I just want to make one explanation. Although the Bill is entitled—Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977, but by this amendment we are only taking away the daily allowance and the conveyance allowance. It will not affect the salaries etc.

Mr. Chairman : Why has the word 'salary' been used ?

M. S. M. Masud : It was used in one of the speeches that is why I had to give this explanation that it only takes away the conveyance and daily allowance.

Mr. Chairman : Yes, I will now put the question.

The question before the House is :

“That the Bill to amend the Member of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 [The Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The Bill is adopted unanimously.

Yes, Mr. Hanif Khan, next is yours, item No. 6.

THE JAMMU AND KASHMIR (ADMINISTRATION OF
PROPERTY) (AMENDMENT) BILL, 1977

Mr. Mohammad Hanif Khan : Sir, I beg to move :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance, 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance, 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

Mr. Chairman : Would you like to explain it ?

جناب محمد حنیف خان (وزیر ریاستی امور، سرحدی علاقہ جات و امور کشمیر) :
جناب چیئرمین ! جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جموں کشمیر کی ریاست کی جائیداد

جو کہ پاکستان میں واقع تھی اس کا انتظام ریاست جموں و کشمیر کی حکومت کے پاس تھا چونکہ جائداد پاکستان میں تھی اس لیے اس کا انتظام ریاست جموں و کشمیر کی حکومت کے لیے نہایت ہی گراں تھا، حساب کتاب میں بے قاعدگیاں تھیں، بد انتظامی تھی، بد نظمی تھی اور خاطر خواہ انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا ان غیر تسلی بخش حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ۱۹۵۵ء میں وہ تمام جائداد جو ریاست جموں و کشمیر کی حکومت کے تحت تھی یا ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو مہاراجہ کشمیر یا پونچھ کی ذاتی ملکیت میں تھی، اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ زیر انتظام حکومت پاکستان رہی ہے۔ ۱۹۶۱ء آرڈیننس کے تحت اس کو قانونی شکل دی گئی اور اس قانون کی کمی کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ آج تک اس آرڈیننس کے تحت حکومت پاکستان اس کا انتظام کرتی رہی ہے حالانکہ اس دوران مشکل یہ پیش آئی کہ جہاں جموں و کشمیر کی جائیداد کا معاوضہ بہت زیادہ بڑھنا تھا وہ اس لحاظ سے بڑھ نہ سکا۔ جب کبھی بھی کوئی ایسی صورت اختیار کی تو وہ جو قابض اراضی یا جائیداد تھا وہ ہائی کورٹ چلا گیا اور سٹے آرڈر لے لیا۔ اس طرح معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا تھا وہ دکان جس کا کرایہ ۵۰۰ روپے ماہوار ہونا چاہئے تھا وہ اس کا دس روپے کرایہ دیتے رہے اس طرح کرایہ بڑھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا جس سے اس جائیداد کی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا تھا ایک دوسری بات جو کہ بڑی معمولی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس آرڈیننس کے ذریعے اس جائیداد کی ایڈمنسٹریشن کا کام سنبھالا گیا تھا اس جائیداد کے لیے ایک مینیجر مقرر کیا گیا تھا جو کہ پنجاب کا ایک سینئر مینیجر ہوتا تھا۔ اس ترمیم سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بل کے مطابق مینیجر کے نام کو تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹر کا نام دیا جائے جناب والا! اس ترمیم میں یہ بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ سٹیٹ کونسل کے نام پر جموں و کشمیر کی ریاست کی جو جائیداد پاکستان میں واقع ہے، پاکستان میں اس پر سٹیٹ کونسل کی عمل داری یا عمل درآمد ہو یعنی اس کا اختیار اس پر تسلیم کیا گیا ہے، اس کمی کو بھی پورا کر دیا گیا ہے ہم ایک مینیجمنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں اس ترمیمی بل سے، جس میں سٹیٹ کونسل کے ممبران کو اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے، اس میں ان کو ممبر شپ دی گئی ہے ان کے تمام مشوروں سے، ان کی آراء سے

[Mr. Mahammad Hanif]

مستفیض ہو سکیں گے۔ یہ قانون کی کمی بھی پوری کر دی ہے کہ جن کی جائیداد ہے ان کو اس کے ساتھ ایسوسی ایٹ نہیں کیا یا ان کی رائے کو وقعت نہیں دی گئی اس طرح جناب والا! اب نئی تجویز یہ ہے کہ وہ تمام اختیارات جو کہ دیوانی عدالت کو حاصل تھے وہ ان سے لے لیے جائیں اس کا اختیار ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو دیا جائے تاکہ اگر وہ کرایہ میں اضافہ کرنا چاہے یا نا دہندہ، کرایہ داروں کو نکالنا چاہے تو نکال سکے۔ اس صورت میں جو بھی فیصلہ وہ کرے گا اس کے خلاف عدالت دیوانی کو اختیار سہاعت حاصل نہیں ہو گا۔ اس صورت میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے یا کوئی ظالمانہ فیصلہ کرتا ہے یا کوئی من مانی کاروائی کر دیتا ہے تو شکایت کا اس ترمیم میں کوئی علاج تجویز نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے۔

تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے اور وہ اپیل مرکزی حکومت کے ایک سینئر افسر کے پاس ہو گی جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہوگا اور وہ اس کو سن سکے گا اور اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گی اس کا خاطر خواہ طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا اور ناانصافی کو دور کیا جائے گا اور اس میں ہم نے یہ بھی خیال رکھا ہے کہ اگر دونوں صورتوں میں ایڈمنسٹریٹر اور وہ سینئر افسر جو مرکزی حکومت کا ہے ان دونوں کی رائے ایک ہو تو پھر اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے تو مرکزی حکومت نے اپنے پاس نظر ثانی کے بھی اختیارات رکھے ہیں اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک درخواست دے سکتا ہے جس سے ان دونوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور اس صورت میں اس کو خاطر خواہ طریقے سے نیٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جناب عالی! یہ ایک معصوم اور اہم ترمیم ہے اور اگر ہم اس کا انتظام کر سکیں گے اور اس معزز ایوان کے ارکان نے ان ترامیم کے ساتھ اتفاق کیا تو اس کے جو فوائد ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ریاست جموں کشمیر اور پونچھ کی جائیداد سے جو زیادہ آمدنی ہو گی اسے ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے اور پرائم سنسٹر ریلیف فنڈ کے لیے یہ آمدنی استعمال ہو سکے گی، مہاجرین کی بحالی کے لیے یہ استعمال ہو سکے گی اور کشمیر کے جو طالب علم پڑھتے

ہیں ان کے لیے ہم وظائف اچھے طریقے سے اس آمدنی سے دے سکیں گے لہذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ترامیم معزز اراکین منظور فرمائیں گے اور ہماری امداد کریں گے۔

Mr. Chairman : Yes, Mr. Feroze Din Ansari. I am sorry. Mr. Mohammad Salim Khan.

جناب محمد سلیم خان : جناب چیئرمین ! میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں اور بالخصوص جن ترامیم کا ذکر جناب وزیر صاحب نے کیا ہے کہ سٹیٹ کونسل کے اراکین کا بھی اس جائیداد کے انتظام میں اعتماد حاصل کریں گے اور ان کی رائے کو شامل کریں گے تو یہ کارنامہ یا یہ کام قابل تحسین ہے۔ بالخصوص اگر ہم جموں کشمیر کے حالات کو ماضی کے ان تلخ تجربات کی روشنی میں دیکھیں جب آزاد کشمیر کے لوگ اپنے کسی فیصلے کے لیے بھی اتنے با اختیار نہیں ہوتے تھے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آزاد کشمیر کی حکومت کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا تھا اور یہ اعزاز پاکستان پیپلز پارٹی اور قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کو بیوروکریسی کے ہاتھوں سے نکال کر وہاں کے جائز صحیح منتخب نمائندگان کے ہاتھ میں دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ محبت اور لگن ہے اور ان کے ارادے جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط اور زیادہ مستحکم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی حکومت کے قریب تر لائے گا اور وہ لوگ، جو بد قسمتی سے اب تک آزادی سے محروم مقبوضہ کشمیر میں ہیں، ان کے ارادے پاکستان کے اس برادرانہ اور مساوی سلوک سے اور زیادہ مصمم ہوں گے اور وہ آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کو پہلے سے تیز تر کریں گے۔ شکریہ۔

Mr. Chairman : Thank you. Yes Mr. Feroze Din Ansari.

جناب فیروز الدین انصاری : جناب والا ! یہ بل جو آنریبل منسٹر نے پیش کیا ہے اس کی میں پر زور تائید کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سٹیٹ کی آمدنی کے متعلق وضاحت فرمائی ہے اور خاص طور پر جو

[Mr. Feroze Din Ansari]

آزاد کشمیر گوجرانوالہ، لاہور اور ملتان وغیرہ میں مہاجرین ہیں، علیٰ ہذا القیاس ملک کے کونے کونے میں جو کشمیر کے اور جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں ان کی سیٹلمنٹ کا آج تک انتظام نہیں ہو سکا ہے تو میں آنریبل منسٹر سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے اولیت اس بات کو دی جائے کہ جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کے لیے جلد از جلد اور مستقل طور پر مکانات تعمیر کرا کے انہیں سیٹل کیا جائے یہ ایک اچھا اور نیک قدم ہے میں اس بل کی پر زور تائید کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : سیٹلمنٹ آف پراپرٹی ہے۔ سیٹلمنٹ آف پرسنز کا تو اور بل ہو گا مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا انتظام اس سے جدا ہو گا میرے خیال میں اس میں تو نہیں ہو سکتا کیوں محمد حنیف خاں؟

Is it possible to include it?

جناب محمد حنیف خاں : اس میں کوئی ایسی کلاز تو نہیں ہو سکتی ہر حال میں آنریبل ممبر کی تسلی کے لیے یہ کہوں گا کہ

Yes, you can consider it for some other Bill.

جناب والا! میں ان کی تسلی کے لیے یہاں گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور حکومت پاکستان نے، جب سے مہاجرین کا مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے، اس نے اپنے وسائل کے اندر دن رات محنت و مشقت کر کے، جہاں تک بھی ان سے ہو سکتا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی جو مہاجرین ہیں، جب تک ان کو آباد نہیں کرے گی، چین سے نہیں بیٹھے گی۔ لیکن ہر چیز کے لیے کچھ وقت لگتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اب بھی لگاتار قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی ہمارے دل میں قدر ہے۔ ہماری ان کے دل میں عزت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاء اللہ ہم ان کو بحال کر کے مسرت محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے اور ہمیں اطمینان ہو گا۔ سکون ہو گا۔ لہذا میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر طرح کوشش کریں گے تاکہ وہ وہاں رہ سکیں۔

جناب چیئرمین : مولانا عبدالحکیم۔

مولانا عبدالحکیم : جناب چیئرمین صاحب! بل کا مقصد اور ترامیم سامنے ہیں

اور سال ہائے گزشتہ میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی وہ متروکہ اور سہاراہ کی جائیدادیں، جن کی آمدن ان مہاجرین پر خرچ ہونی چاہئے تھی، لیکن اصل میں اس جائیداد کا ضیاع ہوتا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دیہی آبادی کی پچاس فیصد جائیدادوں کا نام و نشان پچھلے ۲۸ سالوں میں لوگوں نے اڑا دیا ہے۔ بلکہ اکثر شہروں میں بھی ایسا ہوا ہے اور اس جائیداد کو ہڑپ کر لیا گیا ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ بہت پہلے اس جائیداد کا تحفظ کیا جاتا اور اس جائیداد کا صحیح استعمال اور وقت کے تقاضوں کے مطابق آمدن کا انتظام کیا جاتا۔ چلو دیر آید درست آید، شائد یہ مقولہ صحیح ہو اور اب اس بل سے اور ان ترامیم سے وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کی کرائے کی جائیدادیں اور اس سے بھی قیمتی جائیدادیں جو کورٹیوں کے حساب سے مختلف طاقتوں نے دبائی ہوئی ہیں، چھپائی ہوئی ہیں اور غلط طریقوں سے استعمال کرتے رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان ترامیم اور اس بل کے ذریعے سے اب وہ خفیہ اور متروکہ جائیداد سامنے آ جائے گی اور اس سے صحیح آمدنی ہو گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آمدنی زیادہ ہو گی تو پھر جو حضرات ابھی سیٹ نہیں ہو سکے ہیں وہ مہاجرین بھی سیٹ کر دیئے جائیں گے۔

Mr. Chairman : Yes, Ch. Mohammad Aslam ?

چوہدری محمد اسلم : جناب چیئرمین ! اس بل کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ

بھی ہے :

“Extending the scope of the utilisation of the income of the property.”

تو یہ غالباً جو امنڈ ہو رہا ہے وہ سیکن ۴ میں آ رہا ہے اور اس کے سب سیکشن ۲ میں ہے۔

“The amount deposited in the account mentioned in sub-section (1), and the income from that amount, shall be utilised for such purposes, including the rehabilitation of refugees from the State of Jammu and Kashmir.....”

تو جناب والا ! جہاں تک اس بل کا تعلق ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں لیکن ایک گزارش کروں گا اور جیسے کہ میرے فاضل دوست نے فرمایا ہے کہ جہاں تک جموں کشمیر کے مہاجرین کا تعلق ہے جو گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات

[Ch. Mohammad Aslam]

اور دوسرے ساحق ضلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو ذاق طور پر جاننا ہوں۔ وہ لوگ میرے گاؤں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آج تک کسی حکومت کی طرف سے بھی کوئی قدم ایسا نہیں دیکھا جو ان لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہو۔ جہاں تک دوسرے مہاجرین کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہر قسم کی سہولتیں ان لوگوں کو ملی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے جس حد تک مدد کر سکتی تھی کی ہے۔ جس قدر سہولتیں دے سکتی تھی دی ہیں۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے تو اتنا زور لگاتے ہیں۔ اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر لے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہاری صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں اور ہم بھی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو جموں و کشمیر کی تقسیم سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی کوششیں اس سلسلے میں ناکافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ محترم وزیر صاحب میری بات کو محسوس نہیں کریں گے ان کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوششیں ناکافی ہیں اور چاہئے کہ ان لوگوں کا سروے کرایا جائے۔ محترم وزیر صاحب ہمارے ساتھ چلیں وہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو کوئی زریرعہ معاش ہے نہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی زندگی کی دوسری ضروریات انہیں آج تک حاصل ہوئی ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محترم وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں تک اس فنڈ کا تعلق ہے اور دوسرے جو فنڈز انہیں مل چکے ہیں ان کی مدد سے سب سے پہلے ان مہاجرین کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین : بہت بہت شکریہ۔

Now, I put the question to the House.

The question before the House is :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance, 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The motion is carried. Now, we take up second reading. Do you want to say anything ?

Mr. Mohammad Haneef Khan : No, Sir.

Mr. Chairman : We take up the second reading. There is no amendment to any of the clauses, so we can straight away put all the clauses together.

Now, the question before the House is :

“That Clauses from No. 2 to No. 9 form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : All Clauses from No. 2 to No. 9, both inclusive, form part of the Bill.

Now, the last question :

“The question before the House is that Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : Clause 1, Preamble and Title form part of the Bill. Yes, Mr. Mohammad Haneef Khan.

Mr. Mohammad Haneef Khan : Sir, I beg to move :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

Mr. Chairman : The motion made is :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

Would you like to say anything ?

Mr. Mohammad Haneef Khan : Yes, Sir.

Mr. Chairman : Yes, you are welcome.

جناب محمد حنیف خان : جناب چیئرمین ! پہلی خواندگی پر بحث کرتے

[Mr. Mohammad Haneef Khan]

ہوئے آخری مقرر نے میری توجہ نئی باتوں کی طرف مبذول کرائی ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے طور پر ان کی تجاویز معقول، درست اور صحیح نہیں لیکن ہم نے مہاجرین جموں و کشمیر کا سروے بھی کیا ہے اور ان کو رجسٹر بھی کیا ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بارہ ہزار خاندان مہاجر ہو کر آئے جن کے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حکومت نے اس وقت تک ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان میں سے پانچ ہزار خاندان کو حکومت آباد کر چکی ہے اور باقی خاندانوں کو آباد کرنے کے لیے حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے میں بھی ان کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معزز ایوان کے معزز ممبران کی خدمت عرض کروں گا کہ جن علاقوں میں جموں و کشمیر کے مہاجرین رہتے بستے ہیں، جن کے پاس بقول ان کے گھر بھی نہیں ہیں مزدوری بھی نہیں ہے، ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، الحمدللہ آج تک وہ زندہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میرا فرض ہے میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کروں گا اور میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس معزز ایوان کے معزز رکن ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کو صرف کشمیر کا ہی مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ اپنا مسئلہ بھی سمجھیں۔ حکومت پاکستان حکومت پنجاب کی توجہ اس طرح دلا سکتی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ بھی کوشش کریں۔ جن لوگوں پاس زمین نہیں ہے، بے گھر ہیں ان کے انتظام کے لیے ہم انشاء اللہ ضرور کوشش کریں گے اور حکومت پنجاب اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گی میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی بہبودی کے لیے قائد عوام نے جو حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو پانچ مرلے کا پلاٹ مفت دیا جائے تو وہ اپنے علاقے کے مہاجر بھائیوں کو یہ کہیں کہ وہ صحیح طریقے سے درست طریقے سے درخواستیں دیں اور وہ تمام فارمیٹیز، جو پانچ مرلے کے پلاٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، پوری کریں تاکہ قائد عوام کے اس اعلان سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ میں ان کو پھر یقین دلانا ہوں کہ ہم انشاء اللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی آباد کاری کے طریق کار کو آسان بنا کر جلد سے جلد ان کو آباد کریں اور اس ثواب و کار خیر میں شریک ہوں۔ شکریہ۔

Mr. Chairman : Thank you, Now, I will put the question.

The question before the House is :

“That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir (Administration of Property) Ordinance, 1961 [The Jammu and Kashmir (Administration of Property) (Amendment) Bill, 1977], be passed.”

(The motion was adopted)

Mr. Chairman : The Bill stands adopted unanimously.

There is no other business left unless Mr. Pirzada, who has come, wants to say anything.

Mr. Abdul Hafeez Pirzada (Minister for Finance, Planning and Provincial Co-ordination): No, Sir. I was informed by the Leader of the House that the Finance Committee has been constituted.

Mr. Chairman : That has been constituted.

Mr. Abdul Hafeez Pirzada : Thank you very much.

Mr. Chairman : No other business ?

(Pause)

Mr. Chairman : At what time would you like to meet tomorrow? Tomorrow it is Friday.

Voices : 10.00 a.m.

Mr. Chairman : Why not 9.30? I think, we meet at 9.30. We should transact something tomorrow.

Mr. Abdul Hafeez Pirzada : 9.30 a.m.

Mr. Chairman : All right. The House stands adjourned to meet tomorrow at 9.30 a.m. Thank you.

(The House adjourned to meet again on Friday, at half-past nine in the morning May 6, 1977)
